

# بالغوں کے لیے نیا ہیلتھ کوریج

1 جنوری، 2019 سے، ورجینیا میں رہنے والے مزید بالغ افراد معیاری، سستی اور بلا قیمت صحت بیمہ تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔

## 1 بالغوں کے لیے نیا ہیلتھ کوریج کیا ہے؟

Medicaid کے ضوابط تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے ماضی میں Medicaid کے لیے درخواست دی ہے اور وہ مسترد ہو گئی تو، اب آپ اہل ہو سکتے ہیں۔ 1 نومبر، 2018 سے، کافی زیادہ لوگ Medicaid کے ذریعہ صحت بیمہ کا اہل ہونے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فوائد کا آغاز 1 جنوری، 2019 سے ہوگا۔

خرده، تعمیرات، بچوں کی دیکھ بھال، لینڈ اسکیننگ، غذائی خدمات میں کام کرنے والے اور دیگر متعدد ایسی ملازمتیں کرنے والے لوگ، جو صحت کا بیمہ فراہم نہیں کرتے، اب اس کے اہل ہو سکتے ہیں۔

بالغوں کے لیے صحت کا نیا کوریج کم آمدنی والے خاندانوں کو بہت زیادہ فوائد فراہم کرتا ہے جو بصورت دیگر نگہداشت صحت تک رسائی کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے ہیں۔

## 2 یہ کس چیز کا احاطہ کرتا ہے؟

صحت کا نیا بیمہ درج ذیل کے لیے بالغوں کا احاطہ کرتا ہے:

- ڈاکٹر، ہسپتال اور ایمرجنسی سروسز
- نسخے کی دوائیں
- لیبارٹری اور ایکس رے کی خدمات
- زچگی اور نومولود کی نگہداشت
- طویل مدتی نگہداشت اور امدادی خدمات
- گھر پر خدمات صحت
- روہ جاتی صحت کی خدمات بشمول منشیات کی لت اور بحالی
- صحت کے علاج کی خدمات
- بحالی صحت کی خدمات بشمول جسمانی، شغلی، اور گویائی سے متعلق معالجات
- کوئی متبادل دستیاب نہ ہونے کی صورت میں Medicaid کے زیر احاطہ خدمات تک نقل و حمل
- خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات
- طبی آلات اور رسدات
- تدارکی اور تندرستی سے متعلق خدمات اور دیرینہ امراض کے نظم و نسق کی خدمات
- اور بہت کچھ!

## 3 کون تحفظ یافتہ ہے؟

بالغ افراد صحت کے نئے کوریج کے اہل ہو سکتے ہیں اگر وہ:

- ورجینیا میں رہتے ہوں
- وہ 19-64 سال کی عمر کے ہوں
- انہیں Medicare حاصل نہ ہوتا ہو یا اس کے اہل نہ ہوں
- آمدنی کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوں، جو خاندان کی جسامت کے لحاظ سے مختلف ہے

### بالغوں کے کوریج کے لیے آمدنی کی حد (مجموعی)\*

| سالانہ   | ماہانہ  | خاندان کا سائز |
|----------|---------|----------------|
| \$17,775 | \$1,482 | 1              |
| \$24,040 | \$2,004 | 2              |
| \$30,305 | \$2,526 | 3              |
| \$36,570 | \$3,048 | 4              |
| \$42,836 | \$3,570 | 5              |
| \$49,101 | \$4,092 | 6              |

\*13 ورجنہ سالانہ 2021 کا کٹہہ ورپہ روافق بنایا جاتا ہے۔ سڈ کو ودھی سے مؤثر آمدنی،

## 4 میں درخواست کیسے دوں؟

آپ درج ذیل میں سے ایک طریقے سے صحت کے کوریج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں:

- Cover Virginia کا سنٹر کو 1-855-242-8282 پر کال کریں۔ مترجمین دستیاب ہیں۔ ہمارے نمائندے آپ کا رابطہ ایسے شخص سے کروائیں گے جو آپ کی ترجیحی زبان بولتے ہوں۔
- Common Help پر ایک آن لائن درخواست مکمل کریں: [www.commonhelp.virginia.gov](http://www.commonhelp.virginia.gov)
- The Health Insurance Marketplace پر ایک آن لائن درخواست مکمل کریں: [www.healthcare.gov](http://www.healthcare.gov)
- ایک کاغذی درخواست اپنے مقامی ڈپارٹمنٹ آف سوشل سروسز کو بذریعہ ڈاک بھیجیں یا خود جمع کروائیں
- درخواست دیتے وقت آپ کو جن دستاویزات کی ضرورت ہو سکتی ہے ان کی فہرست کے لیے [www.coverva.org](http://www.coverva.org) پر جائیں اور اپلائی (Apply) والے صفحہ پر کلک کریں۔